



## AlJasia

## الجبائیه

## الْجَائِيَّة

In the name of Allah,  
Most Gracious, Most  
Merciful.

اللہ کے نام سے جو بہت مہربان  
نہایت رحم والا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

1. Ha. Mim.

حَمَّ

حَمَّ

2. The revelation of  
the Book is from Allah,  
the All Mighty, the All  
Wise.

نزول اس کتاب کا اللہ کی طرف سے  
ہے۔ غالب حکمت والا۔

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ  
الْحَكِيمِ

3. Indeed, in the  
heavens and the earth  
are signs for the  
believers.

بیشک آسمانوں میں اور زمین میں  
نشانیوں میں ایمان والوں کے لئے۔

اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ  
لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

4. And in your  
creation, and what He  
scatters of moving  
creatures are signs for  
a people with certainty.

اور تمہاری تخلیق میں اور جنکو وہ پھیلاتا  
ہے جانوروں میں۔ نشانیاں ہیں ان  
لوگوں کے لئے جو یقین کرتے ہیں۔

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ  
اٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ

5. And the alternation  
of night and day, and  
what Allah sent down  
from the sky of the  
provision, then revived  
therewith the earth  
after its death, and  
turning about of the  
winds, are signs for a  
people who have sense.

اور تبدیل ہونے میں رات اور دن  
کے اور جو نازل فرمایا اللہ نے آسمان  
سے رزق میں سے پھر زندہ کیا اس  
سے زمین کو اسکے مردہ ہونے کے  
بعد اور ہواؤں کی گردش میں نشانیاں  
ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقلمند ہیں۔

وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ مَا  
اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ  
رِزْقٍ فَاَحْيَا بِهٖ الْاَرْضَ بَعْدَ  
مَوْتِهَا وَ تَصْرِیْفِ الرِّیْحِ اٰيٰتٍ  
لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

6. These are the verses of Allah which We recite to you with truth. Then in which statement, after Allah and His verses, will they believe.

یہ ہیں آیتیں اللہ کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں تمہارے سامنے حق کے ساتھ۔ تو پھر کس بات پر اسکے بعد اللہ اور اسکی آیتوں پر وہ ایمان لائیں گے۔

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

7. Woe unto each liar, sinful.

بربادی ہر اسپر جو جھوٹا گنہگار ہے۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٧﴾

8. Who hears the verses of Allah recited to him, then persists arrogantly as though he heard them not. So give him tidings of a painful punishment.

سنتا ہے آیتوں کو اللہ کی جو پڑھی جاتی ہیں اسکے سامنے پھر ضد کرتا ہے غرور سے کہ گویا نہیں انکو سنا۔ سو خوشخبری سنا دو اسکو دکھ دینے والے عذاب کی۔

يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٨﴾

9. And when he comes to know something of Our verses, he takes them in ridicule. Those, for them is an abasing punishment.

اور جب اسکے علم میں آتی ہیں ہماری آیتوں میں سے کچھ تو اڑاتا ہے انکا مذاق۔ یہی لوگ ہیں جنکے لئے ہے عذاب ذلیل کرنے والا۔

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩﴾

10. Beyond them is Hell. And will not avail them what they have earned at all, nor what they have taken besides Allah as protecting friends. And for them is a great punishment.

انکے پیچھے ہے دوزخ۔ اور نہ کام آنے گا انکے جو یہ کماتے رہے ہیں کچھ بھی۔ اور نہ ہی وہ جنکو بنا رکھا تھا انہوں نے سوائے اللہ کے کار ساز۔ اور انکے لئے ہے عذاب عظیم۔

مِّنْ وَرَائِهِمُ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾

11. This is a guidance. And those who disbelieved in the verses

یہ ہی ہے ہدایت۔ اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا آیتوں سے اپنے رب

هٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّبِّهِمْ

of their Lord, for them is a punishment with wrath, full of pain.

کی انکے لئے ہے عذاب سخت قسم کا درد دینے والا۔

الْيَوْمَ ﴿١١﴾

12. Allah, it is He who has subjected for you the sea, that the ships may sail upon it by His command, and that you may seek of His bounty, and that you may be thankful.

اللہ وہ ہی ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لئے سمندر کو تاکہ چلیں کشتیاں اس میں اسکے حکم سے اور تاکہ تم تلاش کرو اسکے فضل کو اور تاکہ تم شکر کرو۔

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

13. And He has subjected for you whatever is in the heavens and whatever is on the earth, all of it from Him. Indeed, in that are signs for a people who reflect.

اور مسخر کر دیا اسی نے تمہارے لئے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب اپنی طرف سے۔ بیشک اس میں ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو غور کرتے ہیں۔

وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾

14. Say to those who believed that they should forgive those who hope not (of the evil) days of Allah, that He may recompense people for what they have earned.

کہدوان سے جو ایمان لائے کہ درگذر کریں ان لوگوں کو نہیں جو اندیشہ رکھتے اللہ کے (پاس سے برے) دنوں کا تاکہ وہ بدلہ دے لوگوں کو اس کا جو وہ کھاتے تھے۔

قُلْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾

15. Whoever does a righteous deed, it is for his own self. And whoever does wrong, so it is against his own self. Then to your Lord you will be returned.

جو کوئی کرے گانیک عمل تو وہ اسکے اپنے لئے ہے۔ اور جو کوئی برائی کریگا تو وہ اسی پر پڑے گی۔ پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔

مَنْ عَمِلَ صٰلِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَ مَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ اِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٥﴾



16. And certainly We gave the Children of Israel the Book and judgment and prophet hood, and We provided them of good things and favored them above all the peoples.

اور یقیناً ہم نے عطا کیں بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت اور ہم نے عطا فرمائیں انہیں پاکیزہ چیزیں اور انکو فضیلت دی سارے لوگوں پر۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

17. And We gave them clear proofs of the commandments. So they did not differ except after what had come to them of the knowledge, through rivalry among themselves. Indeed, your Lord will judge between them on the Day of Resurrection of that wherein they used to differ.

اور ہم نے عطا کیں انکو واضح نشانیاں احکامات کے بارے میں۔ تو نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر اسکے بعد کہ جو اچکا تھا انکے پاس علم۔ ضد میں آپس کی۔ بیشک تمہارا رب فیصلہ کر دے گا انکے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔

وَأَتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا ۗ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾

18. Then We have set you on a clear way of the commandments, so follow it, and do not follow the desires of those who have no knowledge.

پھر قائم کر دیا ہم نے تکو ایک کھلے راستے پر احکامات کے معاملے میں تو تم اسی پر چلو اور اتباع نہ کرو خواہشات کی ان لوگوں کی جو علم نہیں رکھتے۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

19. Indeed, they will never avail you against Allah at all. And indeed the wrong doers, some of them are friends of others. And Allah is

یقیناً یہ ہرگز نہیں کام آئیں گے تمہارے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ اور بیشک ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اور

إِنَّهُمْ لَن يُوَفُّوْا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ

the companion of the righteous.

اللہ ہے دوست منقیوں کا۔

الْمُتَّقِينَ ﴿١٦﴾

20. These are the lights of discernment for mankind, and a guidance, and a mercy for a people who have certainty.

یہ ہیں بصیرت کی روشنیاں لوگوں کے لئے۔ اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں۔

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾

21. Or do they think those who commit evil deeds that We shall make them as those who believed and did righteous deeds. So should be alike their life and their death. Evil is that what they judge.

کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جو کام کرتے ہیں برائیوں کا کہ ہم کر دیں گے انکو ان لوگوں جیسا جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال۔ کہ یہاں ہوگی انکی زندگی اور انکی موت۔ برا ہے جو وہ حکم لگاتے ہیں۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً لِحَيَاتِهِمْ وَ مَمَاتِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾

22. And Allah created the heavens and the earth in truth, and that may be recompensed every soul with what it has earned. And they will not be wronged.

اور پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ اور تاکہ بدلہ پائے ہر نفس اسکا جو اسنے کمایا اور ان پر نہیں ظلم کیا جائے گا۔

وَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ لِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

23. Have you seen him who has taken as his god his desire. And Allah sent him astray despite knowledge, and has set a seal upon his hearing and his heart, and put on his sight a covering. Then who is there who will guide

کیا تم نے دیکھا اسکو جس نے بنا لیا اپنا معبود اپنی خواہش کو۔ اور گمراہ کر دیا اسکو اللہ نے علم کے باوجود اور مہر لگا دی اسکے کانوں پر اور اسکے دل پر اور ڈال دیا اسکی آنکھوں پر پردہ۔ سو کون ہے جو اسکو ہدایت دے اللہ کے بعد۔ تو

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ وَ خَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

him after Allah. Will you not then heed.

کیا نہیں تم غور کرتے۔

24. And they say: There is nothing but our life of the world, we die and we live, and nothing destroys us except time. And they do not have of it any knowledge. They do not but guess.

اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مگر ہماری زندگی دنیا کی۔ ہم مرتے ہیں اور ہم جلتے ہیں اور نہیں ہلاک کر دیتا ہے ہمیں مگر زمانہ۔ اور نہیں انکو اس کا کچھ علم۔ نہیں یہ مگر قیاس کرتے ہیں۔

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾

25. An when are recited to them Our clear verses, none is their argument except that they say: Bring our forefathers, if you are truthful.

اور جب پڑھی جاتی ہیں انکے سامنے ہماری واضح آیات۔ نہیں ہوتی انکی حجت مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں لے آؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم ہو سچے۔

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّنُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾

26. Say, Allah gives you life, then causes you to die, then He will gather you on the Day of Resurrection, there is no doubt about which. But most of mankind do not know.

کہدو کہ اللہ تمکو زندگی بخشتا ہے پھر تمکو موت دیتا ہے پھر وہ تمکو جمع کرے گا قیامت کے روز نہیں ہے کچھ شک جسکے بارے میں لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يَمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

27. And to Allah belongs the dominion of the heavens and the earth. And the day the Hour is established, that day shall lose those who follow falsehood.

اور اللہ کی ہے حکومت آسمانوں اور زمین کی۔ اور جس روز قائم ہوگی قیامت کی گھڑی اس روز خسارے میں پڑ جائیں گے اہل باطل۔

وَاللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسِرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٧﴾

28. And you will see every nation humbled

اور دیکھو گے تم ہر امت کو گھٹنوں

وَتَرَىٰ كُلَّ اُمَّةٍ جٰثِيَةً كُلُّ اُمَّةٍ



on their knees, every nation will be called to its record of deeds. This day you will be recompensed of what you used to do.

29. This, Our Book, speaks against you with truth. Indeed, We were recording what you used to do.

30. Then, as for those who believed and did righteous deeds so will admit them their Lord into His mercy. Such is that, the evident triumph.

31. And as for those who disbelieved, (it will be said to them): Is it not that My verses were recited to you, but you were arrogant and you were a criminal people.

32. And when it was said: Indeed, Allah's promise is the truth, and the Hour, there is no doubt about it. You said: We do not know what the Hour is. Nor we deem it but a

کے بل گری ہوئی۔ ہر فرقے کو پکارا جائے گا اسکی کتاب اعمال کی طرف۔ آج کے دن تکو بدلہ دیا جائے گا اس کا جو تم کرتے رہے ہو۔

یہ ہماری کتاب بیان کر دیگی تمہارے خلاف حق کے ساتھ۔ بیشک ہم لکھ رہے تھے جو کچھ تم کرتے تھے۔

پھر یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک کام پس داخل کریگا انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں۔ یہی ہے وہ کھلی کامیابی۔

اور یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا (ان سے کہا جائے گا) کہ کیا نہیں میری آیات پڑھی جاتی تھیں تمہارے سامنے لیکن تم نے متکبر کیا اور تم تھے مجرم لوگ۔

اور جب کہا جاتا تھا بیشک اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت کہ نہیں ہے کچھ شک اس کے بارے میں۔ تم نے کہا ہم نہیں جانتے کیا ہے قیامت۔ نہ ہم سمجھتے ہیں اسکو مگر

تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٣٠﴾

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَتِي تَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٣١﴾

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ نَبْضَنَا إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ ﴿٣٢﴾

conjecture, and we are not those with certainty.

خیالی اور نہیں ہیں ہم یقین کرنیوالے۔

33. And will appear to them the evils of what they did, and will befall them that which they used to ridicule.

اور ظاہر ہو جائیں گی ان پر برائیاں انکی جو اعمال انہوں نے کیے اور مسلط ہو جائیگا انپر وہ جسکا وہ مذاق اڑاتے تھے۔

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا  
وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ  
يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٣﴾

34. And it will be said: This day We will forget you, as you forgot the meeting of this day of yours, and your abode is the Fire. And none are there for you any helpers.

اور کہا جائے گا کہ آج ہم بھلا دیں گے تمہیں جس طرح تم نے بھلا رکھا تھا پیشی کو اپنے اس دن کی۔ اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور نہیں ہیں تمہارے کوئی مددگار۔

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِكُمْ  
كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا  
وَمَا أَوْلَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ  
نُصْرِينَ ﴿٣٤﴾

35. That is because you took the verses of Allah in ridicule, and deceived you the life of the world. So that day, they shall not be taken out from it, nor will their repentance be accepted.

یہ اس لئے کہ تم نے بنا رکھا تھا اللہ کی آیتوں کا مذاق اور دھوکے میں ڈال رکھا تھا تمکو دنیا کی زندگی نے۔ سو اس دن نہ نکالے جائیں گے وہ اسمیں سے اور نہ انکی توبہ قبول کی جائیگی۔

ذَلِكَ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ  
هُزُوعًا وَغَرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا  
فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ  
يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٥﴾

36. Then, to Allah belongs all the praise, Lord of the heavens, and Lord of the earth, Lord of the Worlds.

پس اللہ کے لئے ہے سب تعریف جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا۔ رب ہے تمام جہانوں کا۔

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ  
الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾

37. And to Him belongs the Majesty in the heavens and the earth, and He is the All

اور اسی کے لئے ہے کبریائی آسمانوں میں اور زمین میں۔ اور وہ غالب ہے

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَ  
الْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ



Mighty, the All Wise.

حکمت والا ہے۔

